

سلسلہ اشاعت: 4



فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (سورہ بقرہ، آیت 110)

ترجمہ: اپنے رب کیلئے نماز پڑھ اور قربانی کر

قربانی کی شرعی حیثیت

اور

پرویزی دلائل پر تبصرہ

مصنف: لطیف از قلم

ترجمان: اسلام مولانا محمد ابراہیم کھنیر لوری رحمہ اللہ تعالیٰ



نظر ثانی: محمد افضل ضلیل خلیل لاٹری

سلسلہ اشاعت: 4



فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
ترجمہ: اپنے رب کیلئے نماز پڑھو اور قرآنی کر

قربانی کی شرعی حیثیت

اور

پرویزی دلائل پر تبصرہ

تحقیق الطیف ارقلم

ترجمان اسلام مولانا محمد ابراہیم کمیر پوری رحمہ اللہ تعالیٰ



نظر ثانی: محمد افضیل غلیل احمد لاری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کتاب الخبیر
محمود حسن

سلسلہ مطبوعات مکتبہ السنۃ نمبر 4۔


نام کتاب	:	قربانی کی شرعی حیثیت اور پر ویزی دلائل پر تبصرہ
نام مؤلف	:	ترجمان اسلام مولانا محمد ابراہیم کبیر پوری۔ رحمہ اللہ تعالیٰ
نظر ثانی	:	محمد افضل ظلیل احمد الازہری
موضوع	:	عقیدہ/ حجیت حدیث/ ردفتنہ انکار حدیث/ احکام و مسائل/ قربانی
صفحات	:	40 سائز : 20x30=16
کمپوزنگ	:	﴿السنۃ کمپوزنگ سینٹر﴾ فون: 4525502
تاریخ اشاعت	:	ذوالحجہ 1424ھ - 2004ء
طبع	:	یار چہارم
طالع	:	ابو بکر
قیمت	:	24/=

ناشر

﴿مکتبہ السنۃ﴾ الدار السلفیۃ لنشر التراث الاسلامی
















18 سفید مسجد۔ سو لجر بازار نمبر = 1۔ کراچی 74400

فون: 7226509 فیکس: 92-21-2419580



فہرست

5 عرض ناشر	
7 اسلام کی چودہ صد سالہ تاریخ قربانی پر شاہد ہے	
8 پہلی نظر افروہی اختلافات میں الجھ کر دشمنان دین کو نہ بھولیں	
10 مشروعیت [قربانی] کی سب سے بڑی دلیل	
12 علم اسماء الرجال کی وسعت	
13 علماء سلف کی مساعی	
13 [حدیث کو عجیبی سازش قرار دینا] نادانی کی انتہاء	
15 [مسٹر پرویز کی] اسلامی نظام پر بے اعتمادی	
16 مسٹر پرویز کی عبارات سے چند اقتباسات	
19 معذرت	
19 [پرویزی نظریات پر] تنقیدی گزارشات	
21 غور فرمائیے! [یا اَبْتِ اَفْعَالِ مَا تُوْمَرُ]	
21 [مسٹر پرویز کی] قرآن دانی کا ماتم	

4		قربانی کی شرعی حیثیت
23 ذبح عظیم سے مراد	
25 بین الاقوامی ضیافت [قیام عرفات کا مقصد قرآنی اور پروری نظریہ]	
27 دور حریت کے بعد ملوکیت	
27 پروری تشخیص	
29 [پروری خیالات کو مان لینے کے لازمی نتائج	
30 [مسٹر پرویز سے] ایک مطالبہ	
31 موجودہ دور میں حجاج کی قربانی	
32 پرویز کا اپنا اعتراف	
34 حاصل کلام	
34 بحث کے دوسرے پہلو	
35 اقتصادی نقطہ نگاہ	
36 قربانی اور جانوروں کی قلت کا بہانہ	
37 یہ بھی یاد رہے!	
38 چند ضروری مسائل	

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

اما بعد: ”قربانی کی شرعی حیثیت اور پریشانی دلائل پر تبصرہ“ تصنیف لطیف جناب حافظ محمد ابراہیم کبیر پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کا مکتبۃ السنۃ کی طرف سے یہ تیسرا ایڈیشن ہے۔ اس تیسرے ایڈیشن کی کمپوزنگ کمپیوٹر پر کرائی گئی ہے۔ کتاب کی افادیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ گزشتہ سال 1413ھ میں کتاب منظر عام پر آتی ہی ختم ہو گئی۔

حافظ صاحب رحمہ اللہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں۔ آپ علمی، سیاسی، صحافتی، الغرض ہر میدان میں غیر معمولی شخصیت کے حامل تھے۔ مجھے متعدد بار آپ کے خطابات سننے اور آپ سے ملاقات کا شرف نصیب ہوا ہے ہر خطاب اور ملاقات کا علیحدہ علمی رنگ دیکھنے میں آیا۔

اللہ عزوجل کا احسان ہے کہ مکتبۃ السنۃ نے ایک سال کے عرصہ میں بارہ کتب و رسائل شائع کئے ہیں اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔

وصلی اللہ علی نبیہ محمد وعلی آلہ وسلم

محمد افضل

مدیر: مکتبۃ السنۃ

سولجر بازار نمبر: 1- کراچی / 5 ذوالقعدہ 1414ھ

امتیازی خصوصیات طبع ہذا

یہ اس کتاب کا چوتھا ایڈیشن ہے اس میں درج ذیل خصوصیات ہیں۔

☆ قرآن اور احادیث کے متروکہ حوالہ جات دیئے ہیں۔

☆ ہمارے ادارہ کے شعبہ تحقیق نے اس پر نظر ثانی کی ہے۔

☆ بعض مقامات پر رقم کی طرف سے حواشی ہیں۔ ☆ نیز بعض زیادات اس

طرح [] کے قوسین میں دیئے ہیں۔ ☆ شروع میں فہرست کا اضافہ ہے۔

(کلمۂ تشکر) بموجب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ”مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ

يَشْكُرِ اللَّهَ“ (1) ”جس نے لوگوں کا شکر ادا نہ کیا وہ اللہ کا شکر نہ ادا کر سکا“

سب سے پہلے اللہ عزوجل کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے یہ کتاب آپ کے

ہاتھوں تک پہنچانے کی توفیق دی، پھر اس کے مولف، پھر ادارہ المعجد الاسلامی

کے شعبہ تحقیق کی اراکین لمة الرحمن، ام بریرہ لمة العزیز، لمة الرقیب، لمة المصور،

لمة المہین کا شکر یہ ادا کرنا ہے کہ جنہوں نے اس کتاب کی تیاری میں بھرپور

تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو سب کے لئے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین۔

وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی نبینا محمد وعلی الہ وأصحابہ

أجمعین۔ خادم السنة النبویة المطہرة علیہ ألف تحیة وسلام۔

محمد افضل خلیل احمد الاثری مدیر مکتبۃ السنة 26 ذوالقعدہ 1424ھ - 2004ء

(1) ترمذی، ابو داؤد، مسند احمد: 4/375، 278 کتاب الشکر لابن ابی الدنیاح: 64۔

اسلام کی چودہ صد سالہ تاریخ شاہد ہے کہ عید الاضحیٰ کے ایام میں اللہ تعالیٰ کے تقرب کے حصول کے لئے جانور ذبح کرنا تمام مسلمانوں میں بلا امتیاز مسلک و مکتب اور بلا تفریق عرب و عجم معمول چلا آیا ہے اور اس ڈیڑھ ہزار سال کے طویل دور میں ہر ملک ہر قوم ہر زمانہ اور ہر دور کے کروڑوں مسلمان پورے ذوق اور شوق سے اس سنت ابراہیمی پر دیوانہ وار عمل کرتے آئے ہیں اور ہر سال اس مقدس تہوار پر کروڑوں جانوروں کا خون بہا کر اس سنت کو تازہ اور اس مبارک عہد کی تجدید کی جاتی رہی ہے۔

پہلی نظر

”عید الاضحیٰ کی آمد پر علمائے دین کی طرف سے اپنے اپنے مسلک کے مطابق عید اور قربانی کے مسائل پر کثرت سے اشتہار، پمفلٹ اور رسائل شائع ہوتے رہتے ہیں۔ ایسا لٹریچر شائع کرنے والے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ قربانی ایک عمل مشروع ہے، سنت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے، اسلام کا شعار ہے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے بلکہ عید الاضحیٰ اور ایام تشریق میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے قربانی کے جانور کا خون بہانا بہترین عمل ہے، البتہ جانور کی عمر، ظاہری وضع قطع (ڈم سینگ وغیرہ) اور قربانی کے وقت اور ایام میں قدرے اختلاف ہے، اور علماء اپنے اشتہارات و رسائل میں زیادہ تر انہی مسائل کو اہمیت دیتے اور اپنے اپنے مسلک کو راجح ثابت کرنے کے لئے دلائل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو قبول فرمائے اور ان کو اس کے بہترین اجر سے نوازے۔

لیکن ایک بات جسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے یہ ہے کہ باہمی فروعی اختلاف میں اپنے اپنے مسلک کی ترجیح و تصحیح کے لئے اپنی تمام صلاحیتوں اور قوم کے کثیر سرمایہ کو صرف کر دیا جاتا ہے اور اسے تبلیغ اور ثواب سمجھ لیا گیا ہے، لیکن ان حضرات کے الحاد اور ان کی مذموم تبلیغی مساعی سے صرف نظر کر لیا جاتا ہے جو

قربانی کو غیر مشروع، غیر اسلامی بلکہ مشرکین کی رسم اور فضول خرچی قرار دیتے ہوئے عوام الناس کو اس ”شُرک اور گناہ“ سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں اور اس سنت ابراہیم اور شعار اسلام کے خلاف دجل و فریب کی اشاعت پر ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں اور اس لٹریچر سے شہروں کے درو دیوار سیاہ کرتے اور جدید تعلیم یافتہ حضرات تک بلا قیمت پہنچانا اپنا فرض خیال کرتے ہیں اور علمائے کرام کے اجتماعی معتقدات کا برسر بازار مذاق اڑاتے اور قربانی کی مشروعیت اور اس کے سنت و ثواب ہونے کا ثبوت مانگتے ہیں۔

مگر ہمارے علماء ہیں کہ قربانی کے جانور کی عمر، سینگ، دم وغیرہ اور قربانی کے ایام کی تحدید و توسیع میں مصروف ہیں اور اس سے آگے جانے کے لئے آمادہ نہیں ہیں۔

اس سلسلہ میں سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ منکرین قربانی (پرویز پارٹی) کے لٹریچر سے ہماری وہ جدید تعلیم یافتہ نسل متاثر ہو رہی ہے جو کل کو ملک کی باگ ڈور سنبھالنے والی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس نسل کو اس قسم کے الحاد سے بچانے کی فکر کی جائے اور ان حضرات کو قربانی کی مشروعیت اور اسکے فلسفہ سے آگاہ کیا جائے اور پرویز اور اسکے ہم خیال ملحدین کے زہریلے لٹریچر کے اثرات سے ان عزیزوں کے قلوب و اذہان کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی جائے۔

ہم نے اسی مقصد سے یہ مقالہ مرتب کیا ہے اور اس میں مسٹر پرویز کے ان

تمام دلائل کا علمی اور منطقی انداز میں جائزہ لیا ہے جو انہوں نے اپنی کتابوں میں قربانی کے خلاف پیش کئے ہیں۔ طرز بیان ہم نے وہ اپنایا ہے کہ جسے جدید تعلیم یافتہ حضرات آسانی سمجھ سکیں۔ کیونکہ ہمارا اصل مخاطب یہی طبقہ ہے..... امید ہے کہ حضرات علماء کرام ہماری اس کوشش کو بہ نظر استحسان دیکھیں گے اور اہل ثروت اس رسالہ کی تقسیم و اشاعت میں تعاون فرمائیں گے تاکہ عامۃ المسلمین اس سے استفادہ کر سکیں۔

مشروعیت کی سب سے بڑی دلیل

ہم تسلیم کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور کی عمر ایام قربانی کی تحدید واجب قربانی کے لئے ضروری نصاب اور اس قسم کی بعض دوسری جزئیات میں فقہاء کے ہاں اختلاف موجود ہیں۔ لیکن نفس قربانی کی مشروعیت اور اس امر پر کہ قربانی کسی خاص مقام سے مخصوص نہیں۔ تمام دنیائے اسلام کا اتفاق اور پوری امت کا اجماع ہے۔ قرآن مجید میں اختصار اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری وضاحت سے اس کا تذکرہ اور تفصیلات موجود ہیں۔ اور ملت اسلامیہ کا متواتر عمل اس کی مشروعیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ عہد نبوت سے آج تک ہر نسل کے بعد دوسری نسل پورے یقین و اذعان کے ساتھ اس پر عمل پیرا رہی ہے۔ ہر عہد کے لاکھوں، کروڑوں مسلمانوں نے اپنے اسلاف سے یہ

طریقہ اخذ کیا۔ اور آنے والی پشت کے کروڑوں افراد تک پہنچایا۔ اگر تاریخ اسلام کے کسی دور میں اسے از خود ایجاد کر کے دین میں شامل کیا گیا ہوتا تو ناممکن بلکہ محال اور قطعی محال تھا کہ امت اسے بالاتفاق قبول کر لیتی اور کوئی [اللہ] کا بندہ اس کے خلاف لب کشائی نہ کرتا۔ عقل اس امر کو قبول کرنے سے قطعاً انکاری ہے کہ ”بدعت“ کو جزو دین بنا کر اس کی مشروعیت پر سینکڑوں احادیث وضع کر لی جائیں اور پوری امت آنکھیں بند کئے بیٹھی رہے۔

اس کے برعکس ہماری تاریخ میں سینکڑوں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ دین میں ادنیٰ سے ادنیٰ اضافہ بھی گوارا نہ کیا گیا بلکہ اس کے خلاف نہایت شدت سے صدائے احتجاج بلند ہوئی حتیٰ کہ قید و بند کی سختیاں اور داد و رسن کی آزمائش بھی اس میں سدراہ نہ ہو سکی۔ ان حالات میں اگر اس تو اتر عملی کو نظر انداز کر دیا جائے تو پھر بتایا جائے کہ آخر تاریخ کا معیار کیا ہے؟ اور وہ کونسا اسلوب تحقیق ہے جسے اختیار کیا جائے اور اس کی روشنی میں تاریخ کی جانچ پڑتال کی جائے؟

علم اسماء الرجال کی وسعت

ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے بعد عہد امویہ اور دور عباسیہ میں متعدد احادیث وضع کی گئیں اور بعد کے زمانہ میں کئی ایک بدعات کو داخل اسلام کرنے کی ناروا جسارت کی گئی۔ لیکن ہم انتہائی خوش قسمت ہیں کہ محدثین کرام رحمہم اللہ نے اپنی کڑی اور بے لاگ تنقید سے ان تمام مساعی کو ناکام بنا دیا اور سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عمل و ارشادات کو کذب و بناوٹ اور ترمیم و اضافہ سے محفوظ رکھنے کے لئے رجال و اسانید کے دفاتر مرتب کر ڈالے۔ اور جرح و تعدیل کے وہ متوازن اور نیچرل قواعد ترتیب دیئے کہ دودھ اور پانی الگ کر دکھایا۔ انتہایہ کہ اس مقصد اہم کے لئے لاکھوں ناقلین کی امانت و دیانت، تقویٰ و طہارت اور ثقاہت و نقاہت کے علاوہ ان کی مرگ و حیات اور تعلیم کی تفصیلات اور تلامذہ و اساتذہ کے تمام سلاسل کو مدون اور منضبط کر ڈالا۔ اور یہ سب کچھ محض اس لئے ہوا کہ قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہ ہو سکے اور دین اپنی صورت میں محفوظ رہے۔

علمائے سلف کی مساعی

علمائے سلف کی انہی مساعی جمیلہ کا ثمرہ ہے کہ آج بھی تلاوت قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہوئے نہ تو بعد زمانی محسوس ہوتا ہے اور نہ ہی اس چشمہ صافی میں کسی تنکد کا احساس ہوتا ہے بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید اپنی تمام رعنائی اور عین موقع کی مناسبت سے ہمارے سامنے نازل ہو رہا ہے اور احادیث ہم خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن رہے ہیں اور ہمارے اسلاف کی یہی علمی اور تحقیقی مساعی ہیں کہ آج محققین یورپ ہمیں رشک بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اور ہمارے محدثین کرام کی مثالی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔

نادانی کی انتہاء

لیکن افسوس کہ آج نام نہاد مسلمانوں کا ایک گروہ اس سرمایہ ناز و اختار کو ظنون و اوہام کا پلندہ خیال کرتا ہے اور حدیث و سنت کے تمام ذخائر کو کعبی سازش قرار دیتے ہوئے اسلام کے حسین چہرہ پر بد نما داغ سے تعبیر کرتا ہے اور ہمارے خیال میں یہ انداز فکر اسلامی کی ثقافت اور اپنے فکری، علمی اور تاریخی سرمایہ کو اپنے ہاتھوں تباہ کرنے کے مترادف ہے۔

اس عقل و ذہن اور اس قماش کے لوگ اپنی نادانی اور جہالت کے باعث اس امر پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں کہ اسلامی لٹریچر کے تمام ذخائر کو غیر یقینی ثابت کریں، اور وہ اعمال جو عبادت کی حیثیت میں ڈیڑھ ہزار سال سے معمول آ رہے ہیں، انہیں غیر اسلامی بلکہ دور جاہلیت کی یادگار قرار دیں، انہیں اس قسم کے خیالات کے اظہار میں ذرہ بھر جھجک محسوس نہیں ہوئی کہ ان کی اس رائے کو صحیح تسلیم کر لینے کے لازمی نتائج کیا ہوں گے اور اس کو مان لینے کے بعد صحابہ کرام [رضوان اللہ علیہم اجمعین]، تابعین عظام، محدثین، فقہاء اور دیگر اسلاف [رحمہم اللہ اجمعین] کی نسبت ہمیں کیا اعتقاد رکھنا ہوگا۔

اسلامی نظام پر بے اعتمادی

ہمارے ملک میں اس گروہ کے سرغنہ مسٹر غلام احمد پرویز ہیں انہوں نے ادارہ ”طلوع اسلام“ کے نام سے ہم خیال حضرات کو اپنے گرد جمع کر رکھا ہے اور انہی مسائل پر مشتمل لٹریچر شائع کرنے میں مصروف ہیں آگے بڑھنے سے پیشتر ہم آپ کو مسٹر پرویز کے خیالات کی ایک جھلک دکھانا ضروری خیال کرتے ہیں۔

پرویز صاحب اپنے ایک مضمون میں قربانی کو غیر اسلامی رسم ثابت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: ”یہاں قدرتی طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اس قربانی کے لئے کوئی حکم اور کوئی سند موجود نہیں تو ہزار برس سے یہ کس طرح متواتر چلی آ رہی ہے اور اس کے خلاف کسی نے آواز کیوں نہ اٹھائی یہ سوال بہت اہم ہے اور اس کا جواب اس وقت ملے گا جب کوئی مرد حق کو اسلام کی تاریخ لکھے گا اس لئے کہ یہ سوال ایک قربانی تک ہی محدود نہیں یہ تو پورے اسلامی نظام کو محیط ہے وہ دین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تک پہنچایا تھا۔ اس کا کون سا گوشہ اور کون سا شعبہ ہے جس میں تحریف نہیں ہو چکی۔“

(ملاحظہ ہو ”قرآنی فیصلے“ مجموعہ مضامین پرویز صفحہ نمبر 65-66)

بہر حال ہم آج کی فرصت میں اس گروہ اور اس سچ پر سوچنے والے حضرات کے ان خیالات کا تجزیہ اور ان دساؤں کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو قربانی کے مسئلہ پر ان حضرات کی طرف سے شائع ہو رہے ہیں۔

چند اقتباسات

اس سے قبل کہ ہم قربانی کی شرعی حیثیت واضح کریں اور ان حضرات کے موقف کو زیر بحث لائیں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پرویز صاحب کے خیالات کو ان کے اصل الفاظ میں پیش کر دیں:-

(1)۔ ”حضرت ذلیل اکبر اور حضرت اسماعیل کے تذکار جلیلہ کے ضمن میں قرآن نے یہ کہیں نہیں کہا کہ اس واقعہ عظیمہ کی یاد میں جانوروں کو ذبح کیا کرو۔ حتیٰ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈھا ذبح کرنے کا واقعہ بھی قرآن میں نہیں تو رات میں ہے۔“

(قرآنی فیصلے صفحہ نمبر: 54)

(2)۔ ”ساری دنیا میں اپنے طور پر قربانیاں ایک رسم ہے اسی طرح حاجیوں کی وہ قربانیاں جو آج کل کرتے ہیں محض ایک رسم کی تکمیل رہ گئی ہے۔“

(صفحہ نمبر: 56)

(3)۔ ”قرآن کریم میں جانور ذبح کرنے کا ذکر (نہیں صاحب حکم!) حج کے ضمن میں آیا ہے۔ عرفات کے میدان میں جب یہ تمام نمائندگان ملت ایک لائحہ عمل طے کریں گے تو اس کے بعد منیٰ کے مقام پر دو تین دن تک ان کا اجتماع رہے گا جہاں یہ باہمی بحث و تمحیص سے اس پروگرام کی تفصیلات طے کریں

گے۔ ان مذاکرات کے ساتھ باہمی ضیافتیں بھی ہوں گی آج صبح پاکستان والوں کے ہاں! شام کو اہل افغانستان کے ہاں! اگلی صبح اہل شام کی طرف سے (وقس علی ذالک) ان دعوتوں میں مقامی لوگ بھی شامل کر لئے جائیں گے، امیر بھی اور غریب بھی! اس مقصد کے لئے جو جانور ذبح کئے جائیں گے قربانی کے جانور کہلائیں گے۔ چونکہ اس اجتماع کا مقصد نہایت بلند اور خالصتا لوجہ اللہ ہے۔ اس لئے پروگرام کی ہر کڑی اللہ کے قریب لانے کا ذریعہ ہے۔ یہ ہے قربانی کی اصل! اس لئے قرآن نے صراحت فرمائی ہے کہ قربانی کے جانوروں کی منزل مقصود بیت اللہ ہے۔ “ثُمَّ مَحَلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔

(صفحہ نمبر: 55)

(4)۔ ”تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ میں قربانی نہیں دی۔ حج 9ھ میں فرض ہوا۔ حضور اس سال تشریف نہیں لے گئے۔ لیکن اپنی طرف سے کچھ جانور امیر کارواں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیئے کہ وہاں مصرف میں لائے جائیں۔ اگلے سال خود حضور حج کے لئے تشریف لے گئے اور وہیں جانور ذبح کئے۔ لہذا ہر جگہ قربانی دینا نہ حکم اللہ ہے اور نہ سنت ابراہیمی اور نہ سنت محمدی!“۔ (صفحہ نمبر: 56)

(5)۔ ”حضرت ابراہیم کے متعلق قرآن میں ہے کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں آپ نے سمجھا کہ یہ اشارہ نبی ہے

اس لئے اس کی تعمیل ضروری ہے۔ بیٹے سے ذکر کیا تو اس نے بھی کہا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اس کی تعمیل میں قطعاً تامل نہ کیجئے۔ میں ذبح ہونے کو تیار ہوں۔ آپ نے بیٹے کو لٹا دیا۔ اس کے گلے پر چھری رکھ دی تو اللہ نے پکارا کہ اے ابراہیم! تم نے خواب کو حکم اللہ پر محمول کر کے اسکی پوری تعمیل کر دی۔ اس لئے ظاہر ہے کہ اگر تمہیں بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لئے بھی حکم دیا گیا تو تم اسے بلا تامل پورا کرو گے۔ یقیناً باپ اور بیٹا دونوں اطاعت و تسلیم کے بلند ترین مقام پر فائز ہو۔ اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی تولیت کے لئے منتخب کر لیا۔ قرآن میں بس اتنا ہی واقعہ ہے۔ تورات میں البتہ یہ بھی ہے کہ جبریل نے جنت سے ایک مینڈھالا کر بیٹے کی جگہ لٹا دیا اور چھری بیٹے کی جگہ مینڈھے پر چل گئی لیکن یہ تو ایک اسرائیلی افسانوں میں سے افسانہ ہے۔ قرآن اس کی تائید نہیں کرتا۔“

(صفحہ نمبر: 64-65)

(6)۔ ”مذہبی رسومات کی ان دیمک خوردہ لکڑیوں کو قائم رکھنے کے لئے طرح طرح کے سہارے دیئے جاتے ہیں، کہیں قربانی کو سنت ابراہیمی قرار دیا جاتا ہے، کہیں اسے تقرب الہی کا ذریعہ بتایا جاتا ہے، کہیں دوزخ سے محفوظ گزار جانے کی سواری بنا کر دکھایا جاتا ہے۔“

(صفحہ نمبر: 64)

معذرت

ہم قارئین سے معذرت خواہ ہیں کہ تقاضائے اختصار کے باوجود ہم نے پرویز صاحب کے اقتباسات نقل کرنے میں تفصیل سے کام لیا ہمارے خیال میں یہ تفصیل ناگزیر تھی۔ اس کے بغیر بات کو آگے چلانا مناسب نہیں تھا۔ ویسے بھی تنقید و تبصرہ کے لئے ضروری ہے کہ فریق ثانی کے خیالات کے اظہار میں بخل و اختصار سے کام نہ لیا جائے بلکہ حریف کے نظریات کو پورے بسط اور وضاحت کے ساتھ مخاطب کے سامنے رکھ دیا جائے تاکہ اسے تحریف و ترمیم کا گلہ نہ رہے۔

تنقیدی گزارشات

اب ذرا پرویز صاحب کے ارشادات پر تنقیدی نگاہ ڈالنے اور انصاف کیجئے کہ بات کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے۔ انہوں نے فقرہ نمبر (1) میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پر آمادگی کو واقعہ عظیمہ سے تعبیر فرمایا ہے۔ حالانکہ ان کی رائے میں اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو ذبح کرنے کا کوئی حکم ہی نہیں دیا تھا۔ خواب میں جو کچھ کہا گیا تھا جناب ابراہیم علیہ السلام اس کا مطلب سمجھنے سے قاصر رہے اور مجاز کو حقیقت سمجھ بیٹھے چنانچہ پرویز صاحب اپنی ایک دوسری کتاب ”جوئے نور“ میں لکھتے ہیں:-

آپ (حضرت ابراہیم) خواب کے ایک اشارے سے یہ سمجھے کہ حکم ملا ہے کہ بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے ہر چند یہ حکم نہ تھا محض خواب میں ایسا دیکھا تھا۔ لیکن انہوں نے اس کو کچھ اوپر کا اشارہ سمجھ لیا اور ایسی تحیر انگیز اور ہوش ربا قربانی کے لئے تیار ہوئے۔ بیٹے سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ اب بیٹے کا جواب بھی سن لیجئے، عرض کیا:-

﴿يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ

الصَّابِرِينَ- ط ﴿

ابا جان! جس بات کا اشارہ آپ کو ملا ہے اسے بلا تامل کر گزریئے۔ ان شاء اللہ آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔“ (صفحہ نمبر: 154-155)

”حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس قربانی کا حکم نہ دیا گیا تھا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اپنی محبت اور شہینگی کے جوش میں خواب کو حقیقت سمجھ بیٹھے اور بیٹے کی قربانی کے لئے آمادہ ہو گئے۔ لیکن جس وقت انہوں نے چھری ہاتھ میں لی تو اس وقت آپ کو بتایا گیا کہ خواب کے مجاز کی حقیقت کیا تھی۔“ (صفحہ نمبر: 155-156)

غور فرمائیے

کہ جب ذبح کا حکم ہی نہ ہوا تھا بلکہ خلیل اللہ نے منشاء الہی سمجھنے میں غلطی کی تھی تو اس پر تحسین و مرجبا کا کیا مطلب! یہاں تو چاہیے تھا کہ فوری طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اجتہادی غلطی پر توجہ دلائی جاتی اور انہیں اپنے الہام کے اصل منشاء پر اطلاع دی جاتی۔ مزید غور فرمائیے کہ حضرت اسماعیل تو: يَا اَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ کے الفاظ میں والد محترم کے خواب میں دیکھے نظارے کو امر الہی سے تعبیر فرما رہے ہیں، لیکن پرویز صاحب کس دیدہ دلیری سے قرآنی الفاظ کے برعکس کہہ رہے ہیں کہ: ”حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس قربانی کا حکم نہ دیا گیا تھا“۔ (صفحہ نمبر 155)

قرآن دانی کا ماتم

پھر ان کا کمال اور ہاتھ کی صفائی ملاحظہ فرمائیے کہ اسماعیلی الفاظ ﴿افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾ کا ترجمہ ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ ”ابا جان جس بات کا اشارہ آپ کو ملا ہے اسے بلا تامل کر گزرئے“۔

ہم پرویز صاحب اور ان کے عقیدت مندوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ﴿تُؤْمَرُ﴾۔ (سورۃ الصفت آیت: 102) کا معنی ”اشارہ ملا“ کس لغت میں

لکھا ہے؟ اگر آپ کو اپنے ترجمہ پر اصرار ہے تو لغت عرب سے ثبوت دیجئے اور اگر اس لفظ ﴿تَوَمَّرُ﴾ (سورۃ الصفۃ آیت: 102) کا مادہ امر ہے تو ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم آپ کی قرآن دانی کا ماتم کریں۔ آپ کو مفسر قرآن کی بجائے محرف قرآن تصور کریں اور آپ کے طبع زاہد ”معارف القرآن“ کو پرکھنے کے برابر بھی حیثیت نہ دیں۔

ہاں یہ بھی فرمائیے کہ آپ کے پاس اپنے اس دعویٰ پر کیا دلیل ہے کہ اس خواب کے مجاز کی حقیقت کچھ اور تھی۔

پھر آپ نے فقرہ نمبر 5 میں ان الفاظ کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ: ”اگر یہ حکم ہے تو اس کی تعمیل میں قطعاً تامل نہ کیجئے“۔

براہ نوازش فرمائیے کہ ”اگر یہ حکم ہے“ قرآن مجید کے کن الفاظ کا ترجمہ ہے؟ ہاں یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ کو لغت عرب سے آزاد ترجمہ کرنے کا حق کس نے دیا ہے؟ اور آپ کس برتے مفسرین کرام اور محدثین عظام کے منہ آرہے ہیں؟

پھر آپ نے انہی آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی تولیت کے لئے منتخب کر لیا“ (فقرہ نمبر 5)

محترم! یہ کن الفاظ کا ترجمہ اور کون سی آیت کا مفہوم ہے؟ قرآن کریم کے بیان کے مطابق تو اس وقت کعبہ کا نام و نشان بھی نہ تھا اور حضرت ابراہیم علیہ

السلام کو بنائے کعبہ کا حکم ہی اس واقعہ کے کافی عرصہ بعد ہوا۔

چلتے چلتے یہ بھی فرما دیجئے کہ آپ کا یہ فقرہ کہ ”اللہ نے پکارا اے ابراہیم! تم نے خواب کو حکم خداوندی..... پر محمول کر کے اس کی پوری تکمیل کر دی“ کن الفاظ کا ترجمہ ہے؟

ذبحِ عظیم سے مراد

پھر آپ نے لکھا ہے کہ: ”حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈھا ذبح کرنے کا واقعہ بھی قرآن میں نہیں تو ریت میں ہے“

برائے مہربانی اتنا تو بتا دیجئے: ﴿وَقَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ﴾۔ (سورۃ الصفت آیت: 107) کا مطلب کیا ہے لیکن اس کا ترجمہ اور مفہوم بیان کرتے ہوئے ذرا قواعد عرب کا احترام رہے۔

پھر آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ: ”قرآن نے یہ کہیں نہیں کہا کہ اس واقعہ عظیمہ کی یاد میں جانور ذبح کیا کرو“۔

پرویز صاحب! ہم آپ کی خدمت میں آپ کی کتاب ”جوئے نور“ سے ان آیات کا ترجمہ پیش کرنا کافی سمجھتے ہیں: ”اور دیکھو، ہم نے ایک بہت بڑی قربانی کے عوض اسماعیل کو ذبح ہونے سے بچا لیا اور ہم نے بعد کو آنے والی نسلوں کے لئے اس واقعہ کی یاد کو باقی رکھا“۔ (صفحہ نمبر: 156)

جناب من! یہی وہ نکتہ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی

حقیقت دریافت کرنے پر بیان فرمایا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا! ”مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ“۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ”سُنَّةُ آبَائِكُمْ إِبْرَاهِيمَ“ یہ تمہارے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم کی سنت (یادگار) ہے۔

ہم حیران ہیں کہ جو شخص قرآن مجید کے ایک ہی مقام کے ترجمہ میں اس قدر غلطیاں اور اسکی تشریح میں اس قدر ہیرا پھیری کرتا ہے اس کے عقیدت مند آخر کس بناء پر اسے دور حاضر کا عظیم انسان اور قرآنی علوم و معارف کا بہترین ترجمان کہتے ہیں۔

ائمہ تفسیر قرآن کا مفہوم متعین کرنے میں قرآنی تصریحات، فرامین نبوی، آثار صحابہ اور لغات عرب سے استمداد کرتے ہیں۔ لیکن پرویز صاحب مفسرین سلف سے ناراض ہیں کہ انہوں نے کتاب الہی کو جیستان بنا دیا ہے۔ لیکن اللہ جانے ان کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ جملہ قرآنی علوم اور قواعد عرب سے بے نیاز ”معارف“ کے نام پر جو کہتے چلے جائیں! اور ان کو توجہ دلانے والا گردن زدنی قرار پائے۔

بین الاقوامی ضیافت

پرویز صاحب نے فقرہ نمبر: 3 میں حجاج کی قربانی کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ: ”قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ میدان عرفات میں طے شدہ لائحہ عمل کی تفصیلات مرتب کرنے کے لئے جب حجاج کا بین الاقوامی اجتماع دو تین دن تک مٹی میں رہے گا تو ان مذاکرات کے ساتھ باہمی ضیافتیں بھی ہوں گی۔ آج صبح پاکستان والوں کے ہاں! شام کو اہل افغانستان کے ہاں! اگلی صبح اہل شام کی طرف“ وغیرہ وغیرہ!

قرآن مجید نے تو قیام عرفات وغیرہ کا مقصد ذکر الہی، استغفار و دعا و مناجات اور شعائر اللہ کی تعظیم بیان فرمایا ہے۔ لیکن مسٹر پرویز ہیں کہ میدان عرفات میں اجتماع کے اصل پروگرام کی نشان دہی ان الفاظ میں فرماتے ہیں کہ وہاں یہ تمام نمائندگان ملت ایک لائحہ عمل مرتب کریں گے پھر اس کی تمام تفصیلات طے کرانے کیلئے ان تمام نمائندگان کو دو تین دن کے لئے عرفات سے مٹی میں لاتے ہیں۔ اللہ جانے یہ تفصیلات عرفات میں طے کیوں نہیں ہوتیں؟ پھر یہ صاحب حجاج کو نمائندگان ملت قرار دیتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں بتاتے کہ یہ حضرات ملت کے نمائندہ کس حیثیت سے ہوتے ہیں اور انہیں سند نمائندگی کون دیتا ہے؟ ہم کم علم تو اتنا ہی جانتے ہیں کہ قرآنی الفاظ میں حج مالی اور بدنی ہر لحاظ سے ہر

صاحب استطاعت پر فرض ہے کیا ملت کی نمائندگی کے لئے یہی اوصاف کافی ہیں۔ ہم اس نظام ربوبیت اور اسلامی معاشرہ کے قیام کے داعی سے یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ ملت کے لئے لائحہ عمل اور اس کی تفصیلات طے کرنا قرآنی الفاظ میں ”أولسی الأمر“ اور صاحبان استنباط حضرات کا کام ہے یا عرفات اور منیٰ جیسے میدانوں میں لاکھوں افراد کا؟ اسی طرح ہماری دانست میں قربانی کے گوشت کا مصرف خود قرآن مجید نے: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾۔ (سورۃ الحج آیت: 36) کے الفاظ میں بتا دیا ہے۔

ہم مسٹر پرویز سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بین الاقوامی ضیافت والی آیت کی نشان دہی فرمائیں۔

ان ضمنی گزارشات کے بعد ہم بین الاقوامی ضیافت کے پرویزی تصور پر تنقید کرتے ہیں۔ پرویز صاحب اپنے ایک مضمون میں اس اعتراض (کہ جب قربانی کے لئے کوئی حکم اور کوئی سند موجود نہیں تو ہزار برس سے یہ کس طرح متواتر چلی آرہی ہے اور اس کے خلاف کسی نے آواز کیوں نہ اٹھائی) کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔

دور حریت کے بعد ملوکیت

”اسلام دنیا سے ملوکیت اور پیشوائیت (ملائیت) مٹانے کے لئے آیا تھا۔ وہ ابن آدم کو وحی اور روحانی دونوں حیثیتوں سے صرف خدا کا مملوک بنانا چاہتا تھا جو درحقیقت اس کی اپنی فطرت صالحہ کی محکومی کا دوسرا نام ہے۔ لیکن جب اس دور حریت کے بعد پھر سے ملوکیت نے سر نکالا تو اس کے ساتھ ہی پیشوائیت کی وہ روح بھی ابھری جسے قرآن نے مسل کر رکھ دیا تھا اسلام اس طرح جگمگا کر دنیا کے سامنے آیا تھا کہ اسے ایک لخت نگاہوں سے اوجھل کر دینا ممکن نہ تھا۔ ملوکیت کی اہلیسا نہ دیمہ کاریوں نے اس کے لئے تلمیس کا دام مہرگ زمین وضع کیا۔ اسلام کے خارجی مظاہر کو بالکل اسی طرح رہنے دیا لیکن ان میں سے روح پوری طرح کھینچ لی۔ اسی غرض کے لئے اسے پیشوائیت سے سمجھوتہ کرنا پڑا۔“


(مجموعہ مضامین صفحہ نمبر: 66-67)

پرویزی تشخیص

اس کے بعد پرویز صاحب فرماتے ہیں کہ: ”پیشوائیت نے ملوکیت کے استحکام کے لئے دین و دنیا کی تفریق کا مسئلہ ایجاد کیا۔ پھر یہ اصول وضع کیا کہ مذہب عقل سے بے نیاز ہے۔ پھر ان غلط نظریات کو مدلل کرنے کے لئے کہا کہ

قرآن کا صحیح مفہوم وہ ہے جو رسول اللہ متعین فرمائیں۔ پھر اس مقصد کے لئے احادیث وضع کی گئیں پھر چونکہ یہ من گھڑت حدیثیں قرآن کے خلاف تھیں۔ اس لئے بے شمار آیات کو منسوخ قرار دیا گیا۔ اور یہ عقیدہ پیدا کر لیا گیا کہ حدیث قرآن کی ناسخ ہے۔ پھر قرآن و حدیث دونوں کو فقہ کے تابع کر دیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد یہ حالت ہو گئی کہ ان رسوم و عقائد کو صداقت کا مسلک ثابت کرنے کے لئے کسی کاوش و کاہش کی ضرورت ہی باقی نہ رہی۔ اس طرح یہ تمام چیزیں عین دین بن گئیں۔ اب ان کے تقدس و عظمت کے لئے سوائے اس کے کسی اور دلیل کی ضرورت ہی باقی نہ رہی کہ یہ چیزیں ہزار برس سے امت میں متواتر چلی آرہی ہیں۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ساری کی ساری امت غلط راہوں پر چلی آرہی ہو۔

(صفحہ نمبر: 70)



لازمی نتائج

پرویز صاحب کے ان خیالات کو صحیح باور کر لینے سے ہمیں آج اسلامی تاریخ، حدیث کے دفاتر، تفاسیر کے خزائن، فقہ کے ذخائر اور اسلامی تہذیب و ثقافت کے تمام سرمایہ سے فی الفور دستبردار ہونا پڑے گا اور تسلیم کرنا ہوگا کہ ہمارے تمام اسلاف جھوٹے اپنے پیغمبر کے نام پر جھوٹ گھڑنے والے اور شاہی درباروں کے حاشیہ نشین تھے اور انہیں بادشاہوں کو خوش کرنے کے لئے اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بولنے میں کوئی عار نہ تھی۔

(نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْهَفَوَاتِ)

بہر حال پرویز صاحب نے اتنا تو مان لیا کہ دین میں یہ ترمیم و تحریف دور حریت (خلافت راشدہ) کے بعد دور ملوکیت (عہد بنی امیہ و بنی عباس) میں شروع ہوئی۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ دور ملوکیت سے پہلے دین اپنی اصلی روح کے ساتھ موجود اور پیشوائیت کی تمام آلائش سے پاک اور صاف تھا۔

ایک مطالبہ

ہم ان کے ان مسلمات کی روشنی میں ان سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ اس امر کا کوئی ثبوت پیش کر سکتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے دور میں قربانی بین الاقوامی ضیافت کے لئے استعمال ہوتی تھی اور تاریخ سے اس کی شہادت دے سکتے ہیں کہ اسلام کے دور حریت میں اس قسم کی ضیافت کا تصور بھی موجود تھا؟ اور قیام منیٰ کے ایام میں بصرہ، کوفہ اور شام وغیرہ کے حجاج نے دوسرے ملک کے حجاج اور مقامی لوگوں کی اس اونچی سطح پر دعوت کی ہو؟ ہاں یہ بھی فرمائیے کہ قرآن مجید میں اس بین الاقوامی ضیافت بلکہ ”منیٰ“ میں قیام کا ذکر کہاں ہے؟ یا لگے ہاتھ یہ کہہ دیجئے کہ قرآن مجید بھی تحریف و ترمیم سے محفوظ نہیں رہا۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ حفاظت تشنہ عوفارہ گیا اور اس کی مخلوق اس کے ارادہ میں حائل ہوگئی۔

نامعلوم ان لوگوں کو بے ثبوت اور غیر ذمہ دارانہ باتیں کہتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی؟ ہمیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ قدرت ان سے انکار حدیث کے جرم کا انتقام لے رہی ہے اور اس گناہ کی پاداش میں ان کا تعلق کتاب اللہ سے منقطع ہو رہا ہے۔

موجودہ دور میں حجاج کی قربانی

پرویز صاحب نے فقرہ نمبر 2: میں جس طرح عام دنیائے اسلام کی قربانیوں کو رسم کہا۔ اسی طرح موجودہ دور میں مکہ مکرمہ میں حجاج کی قربانی کو بھی ”محض ایک رسم کی تکمیل“ قرار دیا ہے۔ اس سے ان کا منشاء غالباً یہ ہے کہ مراسم حج میں قربانی مقصود بالذات نہ تھی۔ اور نہ ہی براہ راست تقرب الہی کا وسیلہ! بلکہ اس سے اصل غرض بین الاقوامی ضیافت ہی تھی۔ چونکہ آج کل اس ضیافت کا اہتمام نہیں ہو رہا۔ اس لئے مکہ مکرمہ میں حجاج کی قربانی بھی غیر ضروری اور محض ایک رسم کی تکمیل ہے۔ ہمیں خدشہ ہے کہ کل کو یہی صاحب یہ کہیں گے کہ حج کا اصل مقصد نمازندگان ملت کا بین الاقوامی اجتماع اور پوری امت مسلمہ کے لئے لائحہ عمل مرتب کرنا تھا جو اس دور میں نہیں ہو رہا۔ لہذا آج کا حج بے مقصد اور محض ایک رسم کی تکمیل ہے۔

بہر حال ہم گزشتہ پیرا گراف میں ان کی بنیاد یعنی بین الاقوامی ضیافت کے نظریہ کو ان کے مسلمات کی روشنی میں غلط ثابت کر چکے ہیں لہذا اس فقرہ پر مزید بحث کی ضرورت نہیں۔

اور اگر اس سے ان کی مراد صرف یہ ہے کہ آج ہمارے اعمال میں اخلاص کا جو ہر کم ہو گیا ہے تو ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں لیکن عدم اخلاق یا قلت اخلاص کے سبب احکام قطعیہ اور اعمال ثابتہ کا انکار عقل سلیم اور نقل صحیح کے خلاف ہے۔

﴿﴾ پرویز کا اپنا اعتراف ﴿﴾

مندرجہ بالا تصریحات کے برعکس پرویز صاحب نے فقرہ نمبر: 4 میں جو کچھ کہا ہے اس کا نتیجہ بدیہی یہ ہے کہ غیر حاجی بھی قربانی کر سکتا ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ نہ جاسکے تو بھی آپ نے قربانی بھیجی ہے۔ پرویز صاحب کے اس اعتراف کے بعد ہمارا اور ان کا اختلاف بہت گھٹ گیا ہے پہلے تو وہ قربانی کی اجازت صرف حجاج کو دیتے تھے۔ لیکن اس بیان میں انہوں نے قربانی کو حجاج کی بجائے مکہ مکرمہ سے مخصوص کر دیا ہے۔ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں قربانی کے جانور کعبۃ اللہ بھیج دیں تو آپ ناراض تو نہ ہوں گے؟ اور اگر آپ خود بھی ایسا کر سکیں تو ہم آپ کو منکر قربانی کہنا چھوڑ دیں گے۔ اللہ کرے کہ آپ اس بیان پر قائم رہیں۔

اب ہمارا جھگڑا صرف اتنا ہے کہ جو مسلمان کسی شرعی عذر کے سبب حج کے لئے مکہ مکرمہ نہ جاسکے وہ اپنے وطن میں قربانی کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں ہم ان سے وضاحت چاہتے ہیں کہ ان کے اس فقرہ میں تاریخ سے کیا مراد ہے؟ اگر کتب حدیث اس میں شامل ہیں تو پھر ان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں قربانی کرنا اور صحابہ کرام

رضی اللہ عنہم کو اس کے لئے حکم دینا پوری تفصیل سے موجود ہے۔
 بلکہ قربانی کے ایام، قربانی کے جانور کے اوصاف، قربانی کا ثواب، قربانی
 کے گوشت کے مصارف اور دوسری ہدایات کا ایک دفتر موجود ہے اور ان تمام
 امور کا تذکرہ بھی ہے جن کا مذاق آپ نے فقرہ نمبر 6 میں اڑایا ہے۔ پھر اس
 تاریخ کے ایک حصہ سے استدلال اور دوسرے حصہ کا بلاوجہ استرداد ہماری سمجھ
 سے بالا ہے۔

اور اگر ان کے فقرہ میں تاریخ سے مراد کچھ اور ہے تو اس کی تعیین فرمائیں۔
 ہم ان شاء اللہ وہیں سے ثابت کر دیں گے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 مدینہ میں اور صحابہ کرام نے اپنے وطن میں عید الاضحیٰ پر قربانی دی ہے۔
 البتہ اس صورت میں ہم پرویز صاحب سے یہ سوال ضرور کریں
 گے کہ اگر حدیث قابل اعتبار نہیں ہے تو تاریخ میں کیا اضافہ ہے کہ
 اسے مستند مانا جائے؟ ہاں یہ بھی تو بتانا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ
 وسلم کے اس فعل کی بنیاد کیا ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 قرآن مجید کے کس حکم کی تعمیل میں قربانی کے جانور مکہ شریف بھیجے؟
 اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بین الاقوامی ضیافت کا
 اہتمام ہوا تھا؟

حاصل کلام

ہم نے پرویز صاحب اور ان کے ”دلائل“ پر مناسب حد تک تنقید کر دی ہے جس سے ان کے معتقدات کی خاصی اور ان کے استدلال کی کمزوری بلکہ ان کے انداز فکر کی کجی بھی ظاہر ہے اور یہ امر بخوبی روشن ہے کہ وہ اپنا مدعا ثابت نہیں کر سکے۔ بلکہ اپنے مزعومہ دعوے کو ثابت کرنے کے لئے قرآن مجید کے غلط ترجمہ اور غلط تشریحات کے مرتکب ہوئے ہیں اور اس ضمن میں انہوں نے کتنی باتیں ایسی کہی ہیں جس کا ثبوت انہوں نے نہیں دیا اور نہ ہی قیامت تک دے سکیں گے (وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا) اور جب تک وہ ان امور کا اثبات نہ کر سکیں ان کے لئے زیبا نہیں کہ پوری امت کے مد مقابل ہمیں اور ڈیڑھ ہزار سال کے عملی توازن کو ملوکیت اور پیشوائیت کے گٹھ جوڑ کا نتیجہ اور پورے اسلامی نظام کو محرف قرار دیں۔

بحث کے دوسرے پہلو

ہم نے بحث کے چند پہلو عمداً نظر انداز کر دیئے ہیں اور اس کا سبب خوف طوالت کے علاوہ یہ خیال بھی ہے کہ ان پہلوؤں پر دوسرے اہل قلم روشنی ڈالیں گے۔ ہم نے پرویزی دلائل پر تنقید کو اس لئے ترجیح دی ہے کہ اکثر معاصرین بحث کے اس انداز کو نظر انداز کر جاتے ہیں اور اکثر مقالہ نگار اپنے خیالات کو

مثبت انداز میں کہنے کے عادی ہیں۔ مخالف فریق کے دلائل کو اس کے مسلمات کی رو سے رد کرنا اگرچہ مشکل نہیں لیکن ہمارے احباب اس طرف کم سے کم توجہ دیتے ہیں اس لئے ہم نے اس انداز کو ضروری سمجھا۔

اقتصادی نقطہ نگاہ

مکرمین سنت اور کچھ اباحت پسند حلقہ قربانی کو معاشی اور اقتصادی حیثیت سے بھی نقصان دہ خیال کرتے ہیں اور بعض حضرات جانوروں کی قلت کا رونا بھی روتے ہیں۔ ان کے اس اعتراض کو صحیح باور کرنے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس امر کا اعتراف کریں کہ اسلام کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ وہ دین کامل ہے بلکہ یہ ہماری معاشیات کے لئے مضر اور اقتصادیات کے لئے تباہ کن ہے۔

ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم ماہر اقتصادیات نہیں۔ لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ اقتصادی استحکام کے لئے یہ امر بے حد ضروری ہے کہ امراء کی دولت غرباء میں منتقل ہوتی رہے۔ اگر یہ اصول ٹھیک ہے تو پھر ملک میں لاکھوں افراد کا ذریعہ معاش یہی ہے کہ وہ ریوڑ پالیں اور عید الاضحیٰ کے موقع پر ان کو مہنگے داموں فروخت کریں۔ پھر لاکھوں قصاب ہیں جو ان ایام میں ذبح کرنے کی معقول اجرت پاتے ہیں۔ پھر لاکھوں غریب خاندان ہیں جو کم از کم تین دن عمدہ غذا سے بہرہ مند ہوتے ہیں اور چرم ہائے قربانی سے بیسیوں ضرورتیں پوری کرتے

پورے سات دن گوشت کا نافع ہونے لگے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو مستقل طور پر ختم کر دیا جائے۔“

کیونکہ قربانی قرآنی الفاظ میں شعائر اللہ میں داخل ہے مسلمانوں کا فرض ہے کہ شعائر اللہ کے احترام میں ہر ممکن قربانی کریں۔

یہ بھی یاد رہے

ایام قربانی میں ذبح ہونے والے جانوروں کے مبالغہ آمیز اعداد و شمار دیتے ہوئے یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے کہ قربانی کے تین چار دن عام مذبح خانے بند رہتے ہیں اور عید سے کئی دن قبل اور بعد بھی ذبیحہ کی رفتار خاصی کم رہتی ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اعداد و شمار ترتیب دیتے ہوئے اس بچت کو میزان سے منہا کر لیا جائے۔ امید ہے کہ جمع و تفریق کا یہ عمل کسی نہ کسی درجہ میں ان خطرات کے لئے حوصلہ افزا ثابت ہوگا۔

چند ضروری مسائل

ذوالحجہ کا چاند دیکھ کر عموماً اور نو سے تیرہ تک خصوصیت سے تکبیریں پڑھنی چاہئیں (بخاری) خاص کر نماز کے بعد۔

☆ تکبیر کے الفاظ یہ ہیں:-

”اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ
الْحَمْدُ“

☆ 9 ذی الحجہ (عرفہ) کی رات کو عبادت ① کرنے اور دن کو روزے رکھنے کی بہت فضیلت آئی ہے اور اسے گناہوں کا کفارہ فرمایا گیا ہے۔

☆ عیدین اور ایام تشریق (10 تا 13 ذی الحجہ) کا روزہ گناہ ہے۔ (منتقى)

☆ نماز عید کی پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد سات اور دوسری رکعت میں قرأت سے پہلے پانچ مزید تکبیریں مسنون ہیں۔ (ترمذی)

☆ ایام تشریق میں سب سے افضل عمل اللہ کی رضا کے لئے جانور قربان کرنا ہے۔ (ترمذی)

☆ لنگڑا، اندھا، کانا، زیادہ بیمار، نمایاں کمزور، نصف یا نصف سے زیادہ کان کٹا، سینگ ٹوٹا، نیز چیرے ہوئے کان والا جانور کی قربانی کرنا منع ہے۔ (ابوداؤد)

① خاص اس رات کی عبادت کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں۔ (الاشرفی)

موجود ہے۔ (فتح الباری)

ذبح کرتے وقت بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ کہنا ضروری اور: "اِنِّیْ
وَجْهْتُ" (پوری تین آیتیں) پڑھنا مستحب ہے۔

اسی طرح: "اللّٰهُمَّ مِنْكَ وَتَلَکَ" کہنا بھی خوب تر ہے۔

قربانی کرنے والے کو ذی الحجہ کے چاند کے بعد قربانی کرنے تک حجامت نہ
کرانی چاہیے۔ (مسلم)

غریب آدمی بھی چاند کے بعد نماز عید تک حجامت نہ کرائے تو مستحق
ثواب ہے۔

10 ذی الحجہ یعنی عید کے دن قربانی کرنا اگرچہ افضل ہے لیکن نفس قربانی 13

ذی الحجہ تک جائز ہے۔

قربانی کی کھالیں مسکین کا حق ہے اور بہتر ہے کہ کھال یا پھر کھال کے
پیسے ① براہ راست کسی مسکین کو دیئے جائیں۔

(حافظ ابراہیم کبیر پوری)

① کھال بذات خود فروخت نہیں کر سکتا ہے۔ (الاشری)

قربانی کی شرعی حیثیت

اسلام کی چودہ صد سالہ تاریخ شاہد ہے کہ عید الاضحیٰ کے ایام میں اللہ تعالیٰ کے تقرب کے حصول کے لئے جانور ذبح کرنا تمام مسلمانوں میں بلا امتیاز مسلک و مکتب اور بلا تفریق عرب و عجم معمول چلا آیا ہے۔

اور

اس ڈیڑھ ہزار سال کے طویل دور میں ہر ملک ہر قوم ہر زمانہ اور ہر دور کے کروڑوں مسلمان پورے ذوق اور شوق سے اس سنت ابراہیمی پر دیوانہ وار عمل کرتے آئے ہیں

اور

ہر سال اس مقدس تہوار پر کروڑوں جانوروں کا خون بہا کر اس سنت کو تازہ اور اس مبارک عہد کی تجدید کی جاتی رہی ہے۔

(مؤلف)



مکتبہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند